

5540- سودی کارڈوں کے ذریعہ تعلیمی فیس کی ادائیگی کرنا

سوال

میں اپنی پڑھائی کے سلسلے میں بہت پریشان ہوں، ماشاء اللہ میرے نتائج تو بہت اچھے ہیں، لیکن میرے لیے مشکل یہ ہے کہ میرے پاس اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے مال نہیں، میں امریکی نہیں جس کی بنا پر مجھے بہت سی مراعات حاصل نہیں ہیں، مجھے دو سیمسٹر کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت اس شرط پر دی ہے کہ میں ان گرمیوں کام کے بعد تعلیمی اخراجات کی اقساط کی ادائیگی کروں۔

یونیورسٹی کے شعبہ مالیات کے آفس نے مجھے تعلیمی اخراجات (\$8000) جمع کرانے کی مہلت دی ہے اور اگر میں ادائیگی نہ کر سکا تو میری تعلیم یہیں موقوف ہو جائے گی، میں کوشش کر رہا ہوں کہ گرمیوں میں مجھے کوئی ملازمت مل جائے، لیکن ابھی تک مجھے کوئی کام نہیں ملا میرا سوال یہ ہے کہ:

اگر میں تین ماہ کے اندر اتنی رقم حاصل نہیں کر سکتا تو کیا میں تعلیمی اخراجات کی ادائیگی کے لیے کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتا ہوں؟

مجھے علم ہے کہ میں بینک کو مقررہ مدت کے اندر ادائیگی نہیں کر سکوں گا، اور مجھے سود ادا کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا، جیسا کہ میں نے ایک لڑکی سے سنی بھی کی ہے اور اس کے گھر والے ہماری شادی پر بھی موافق ہیں، اور اگر میری تعلیم یہیں رک جاتی ہے تو اس کے گھر والے مجھے شادی بھی نہیں کرنے دینگے۔

میں ان سب معاملات سے بہت زیادہ پریشان اور غمزدہ ہوں، میری گزارش ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟

پسندیدہ جواب

مسلمان کے لیے سود لینا جائز نہیں چاہے حالات کیسے بھی ہوں جائیں، کیونکہ سود خور اور سود کھلانے والا بہت ہی خطرہ میں ہیں جیسا کہ صحیح حدیث شریف میں وارد ہے:

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے اور کھلانے، اور اس کے لکھنے والے، اور اس کے دونوں گواہوں لعنت فرمائی، اور فرمایا یہ سب برابر ہیں“

تو کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکارے جانے کی دعا کی ہے۔ بلاشبہ یہ خسارہ تو بہت ہی بوجھل ہے، اور کوئی مقارنہ اور موازنہ نہیں۔

اور ایک نقطہ اور بھی ہے کہ: آپ جان لیں کہ جس کسی نے بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ترک کر دی اللہ تعالیٰ اسے اس کا نعم البدل اور اس سے بہتر عطا فرماتا ہے، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے، اور اس کی مصیبتوں کو دور کر دے اور اس کے معاملات کو آسان کر دے۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے تو اس سے بھی بہتر اختیار کرتا ہے جو بندہ خود اپنے لیے اختیار کرتا ہے، لہذا آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اسی پر بھروسہ کریں، اور اپنے نفس کو اس کی ناراضگی کے سامنے نہ پیش کریں۔

فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے﴾۔

اللہ تعالیٰ تمہیں ہر اس چیز کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے، اور آپ کے معاملہ کو آسان بنائے۔

واللہ اعلم۔